

تیرھویں رجب کی رات

ماہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان کی تیرھویں شب میں دو رکعت نماز مستحب ہے کہ اسکی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے چودھویں شب میں چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے اسطرح پڑھے اور پندرھویں شب میں چھ رکعت نماز دو دو کر کے اسی طرح سے پڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس طریقے سے یہ تین نمازیں بجالانے والا ان تینوں مہینوں کی تمام فضیلتیں حاصل کرے گا اور سوائے شرک کے اسکے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تیرھویں رجب کا دن

یہ ایام بیض کا پہلا دن ہے اس دن اور اسکے بعد کے دو دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اگر کوئی شخص عمل ام داؤد بجالانا چاہتا ہے تو اس کیلئے ۱۳ رجب کا روزہ رکھنا ضروری ہے بنا بر مشہور عام الفیل کے تیس سال بعد اسی روز کعبہ معظمہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔

پندرھویں رجب کی رات

یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہیں:

- (۱) غسل کرے۔
- (۲) عبادت کیلئے شب بیداری کرے، جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے۔
- (۳) امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔
- (۴) چھ رکعت نماز بجالائے، جس کا ذکر تیرھویں کی شب میں ہوا ہے۔
- (۵) تیس رکعت نماز کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے حضرت رسول اللہ سے اس نماز کی بڑی فضیلت نقل ہوئی ہے۔
- (۶) دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ الحمد، توحید، فلق، ناس ۱۱۱ یہ الکرسی اور سورہ قدر میں سے ہر ایک کو چار چار مرتبہ پڑھیں اور نماز کا سلام دینے کے بعد چار مرتبہ کہیں:

اللَّهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ شَيْئًا وَلَا آتَاخُذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيًّا

خدا وہ خدا جو میرا پروردگار ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا اور نہ اس کے سوا کسی کو اپنا سرپرست بناتا ہوں۔

اس کے بعد جو ذکر و دعا چاہے پڑھے۔ نماز کا یہ طریقہ سید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، لیکن شیخ نے مصباح میں داؤد بن سرحان کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نماز کا ایک اور طریقہ بیان کیا ہے کہ پندرہ رجب کی شب میں بارہ رکعت نماز ادا کرے جسکی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھے اور نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید اور لا الہ الا اللہ سے ہر ایک چار چار مرتبہ پڑھے۔ اور پھر چار مرتبہ کہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اس کے بعد کہے: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ خدایا پاک ہے اور حمد خدا ہی کیلئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ تر ہے۔ اللہ ہی پروردگار ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا

شَيْئًا وَمَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

وہی ہوگا جو اللہ چاہے کوئی طاقت نہیں ہے مگر وہ بلند قوت و بزرگ خدا ہے۔

نیز ستائیس رجب کی شب میں بھی یہی نماز بجالائے۔

پندرہ رجب کا دن

یہ بڑا ہی مبارک دن ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہیں:

(۱) غسل کرے۔

(۲) امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، ابن ابی نصر سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں کس مہینے میں امام حسین کی زیارت کروں؟ پ نے فرمایا، کہ پندرہ رجب، اور پندرہ شعبان کو یہ زیارت کیا کرو۔

(۳) نماز حضرت سلمان بجالائے کہ جس کا ذکر رجب کی پہلی شب کے اعمال میں گذر چکا ہے۔

(۴) چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھے اور نماز کا سلام دینے کے بعد ہاتھ پھیلا کر کہے:

اللَّهُمَّ يَا مُدِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ، وَيَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ كَهْفِي حِينَ تُعِينِي الْمَذَاهِبُ وَأَنْتَ بَارِي

اے مجھو! اے ہر سرکش کو سرنگوں کرنے والے اور مومنوں کو عزت دینے والے تو ہی میری پناہ ہے جب راستے مجھے تھکا کر رکھ دیں اور تو ہی اپنی رحمت

خَلَقِي رَحْمَةً بِي، وَقَدْ كُنْتُ عَنْ خَلْقِي غَنِيًّا، وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِينَ، وَأَنْتَ

سے مجھے پیدا کرنے والا ہے جب کہ تو میری پیدائش سے بے نیاز تھا اور اگر تیری رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہونے والوں میں

مُؤَيَّدِي بِالنَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِي، وَلَوْلَا نَصْرُكَ إِيَّاي لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، يَا مُرْسِلَ الرَّحْمَةِ

ہوتا اور تو ہی دشمنوں کے مقابل میری نصرت کر کے مجھے طاقت دینے والا ہے اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں رسوا لوگوں میں سہلوتا اے اپنے خزانوں

مِنْ مَعَادِنِهَا، وَمُنْشَى الْبَرَكَهَ مِنْ مَوَاضِعِهَا، يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالشُّمُوحِ وَالرَّفْعَةِ فَأَوْ لِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ
 سے رحمت بھیجنے والے اور بابرکت جگہوں سے برکت ظاہر کرنے والے اے وہ جس نے خود کو بلندی اور برتری کے ساتھ خاص کیا پس اس کے دوست
 يَتَعَزَّزُونَ، وَيَا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ،
 اس کی عزت کے ذریعے عزت دار ہیں اور اے وہ جس کی غلامی کا طوق بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھا ہے اور اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں
 أَسْأَلُكَ بِكَيْنُونِيَّتِكَ الَّتِي اشْتَقَّقْتَهَا مِنْ كِبْرِيائِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِكِبْرِيائِكَ الَّتِي اشْتَقَّقْتَهَا
 میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ۱۱ فریخت کے واسطے سے جو تو نے اپنی بڑائی سے ظاہر کی اور سوال کرتا ہوں تیری بڑائی کے واسطے سے جسے
 مِنْ عِزَّتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي اسْتَوَيْتَ بِهَا عَلَى عَرْشِكَ فَخَلَقْتَ بِهَا جَمِيعَ
 تو نے اپنی عزت سے نمایاں کیا اور سوال کرتا ہوں تیری عزت کے واسطے سے جس سے تو اپنے عرش پر حاوی ہے پس اسی سے تو نے
 خَلَقْتَ فَهُمْ لَكَ مُدْعِنُونَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ .

ساری مخلوق کو پیدا کیا جو سب تیرے فرمانبردار ہیں یہ کہ تو حضرت محمد اور ان کے اہلبیت پر رحمت فرما۔

روایت میں ۱۱ یا ہے کہ جو بھی غمزدہ یہ دعا پڑھے گا خداوند اس کا غم واندوہ دور فرما دے گا۔

(۵) عمل ام داؤد کہ یہی اس دن کا خاص عمل ہے جو حاجت ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ اور جب کوروزہ
 بہت اؤثر ہے، شیخ نے مصباح میں اس عمل کی کیفیت یوں لکھی ہے کہ عمل ام داؤد کرنے کیلئے ۱۳، ۱۴، ۱۵ اور جب کوروزہ
 رکھے اور ۱۵ اور جب کوزوال کے وقت غسل کرے زوال کے فوراً بعد نماز ظہر و عصر بجالائے کہ رکوع و سجود میں خوف اور
 عاجزی کا اظہار کرے اس وقت وہ خلوت کی جگہ پر ہو، جہاں وہ کسی کام میں مشغول نہ ہو اور کوئی شخص اس سے بات بھی
 نہ کرے، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح عمل کرے کہ سومرتبہ سورہ الحمد، سومرتبہ سورہ اخلاص اور
 دس مرتبہ ۱۱ بیت الکرسی، اسکے بعد یہ سورتیں پڑھے: سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یسین،
 سورہ صافات، سورہ حم سجدہ، سورہ عسق، سورہ حم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ انشقاق اور
 اسکے بعد قرآن کی ۱۱ خری سورہ تک مسلسل پڑھے جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے:

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْحَلِيمُ
 سچا ہے خدا نے بزرگتر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زندہ، گمہدار، صاحب جلال و بزرگی، بڑے رحم والا، مہربان، بردبار اور کرم کرنے والا ہے
 الْكَرِيمُ، الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، الْبَصِيرُ الْخَبِيرُ، شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
 جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے بیباک و خرددار ہے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَبَلَغَتْ رُسُلُهُ
 اور فرشتوں اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی جو عدل پر قائم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غالب صاحب حکمت ہے اور اس کے محترم
 الْكِرَامُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْمَجْدُ، وَلَكَ الْعِزُّ، وَ
 رسولؐ نے یہی پیغام دیا اور میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں اے معبود! تیرے لئے ہی حمد ہے تیرے لئے ہی بزرگی ہے تیرے لئے ہی عزت ہے
 لَكَ الْفَخْرُ، وَلَكَ الْقَهْرُ وَلَكَ النُّعْمَةُ، وَلَكَ الْعِظَمَةُ، وَلَكَ الرَّحْمَةُ، وَلَكَ الْمَهَابَةُ،
 تیرے لئے ہی فخر ہے تیرے لئے ہی غلبہ ہے تیرے لئے ہی نعمت ہے تیرے لئے ہی بڑائی ہے تیرے لئے ہی رحمت ہے تو ہی صاحب بیعت ہے تو ہی
 وَلَكَ السُّلْطَانُ وَلَكَ الْبَهَاءُ وَلَكَ الْاِمْتِنَانُ وَلَكَ التَّسْبِيحُ وَلَكَ التَّقْدِيسُ وَلَكَ التَّهْلِيلُ
 سلطنت والا ہے تو ہی خوبی والا ہے تو ہی صاحب احسان ہے تیرے لئے تسبیح ہے تیرے لئے پاکیزگی ہے تیرے لئے
 وَلَكَ التَّكْبِيرُ، وَلَكَ مَا يُرَى، وَلَكَ مَا لَا يُرَى، وَلَكَ مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى، وَلَكَ
 ذکر ہے تیرے لئے بڑائی ہے تیرے لئے ہے ہر دکھائی دینے اور دکھائی نہ دینے والی چیز تیرے لئے ہے جو بلنا۱۱ سامانوں
 مَا تَحْتَ الثَّرَى، وَلَكَ الْأَرْضُونَ السُّفْلَى، وَلَكَ الْأَخْرَةَ وَالْأُولَى، وَلَكَ مَا تَرْضَى بِهِ مِنْ
 سے اوپر ہے تیرے لئے ہے ہر چیز جو زیر زمین ہے تیرے لئے ہیں چلی زمینیں تیرے لئے ہے ۱۱ غاڑ اور انجام تیرے ہی
 الشَّاءِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالنُّعْمَاءِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَائِيلَ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَالْقَوِيَّ عَلَى
 لئے ہے تیری پسند کی ہوئی تعریف، حمد، شکر اور نعمت اے معبود! جبریلؑ پر رحمت فرما جو تیری وحی کا امین ہے تیرا حکم ماننے میں
 أَمْرِكَ، وَالْمُطَاعِ فِي سَمَاوَاتِكَ وَمَحَالِّ كَرَامَاتِكَ، الْمُتَحَمِّلِ لِكَلِمَاتِكَ، النَّاصِرِ لِأَنْبِيَائِكَ،
 قوی ہے اور تیرے ۱۱ سامانوں میں قابل اطاعت ہے تیری نوازشوں کا مرکز اور تیرے کلمات کا حامل ہے تیرے انبیاء کا مددگار ہے اور تیرے دشمنوں
 الْمُدْمِرِ لِأَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِيكَائِيلَ مَلِكِ رَحْمَتِكَ وَالْمَخْلُوقِ لِرَأْفَتِكَ وَالْمُسْتَعْفِرِ
 کو ہلاک کرنے والا ہے اے معبود! میکائیلؑ پر رحمت فرما جو تیری رحمت کا فرشتہ ہے اس کا وجود تیری مہربانی کا مظہر ہے وہ تیرے اطاعت گزاروں کا مددگار
 الْمُعِينِ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ حَامِلِ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ الْمُنتَظِرِ
 اور ان کیلئے طالب بخشش ہے اے معبود! رحمت فرما اسرائیلؑ پر جو تیرے عرش کو اٹھانے والا اور صور پھونکنے والا کہ تیرے انتظار میں یہ وہ تیرے خوف سے
 لِأَمْرِكَ الْوَجَلِ الْمُسْفِقِ مِنْ خِيْفَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى السَّفَرَةَ
 خائف و ہراساں ہے اے معبود! حاملان عرش پر رحمت فرما جو پاک و پاکیزہ ہیں اور اپنے سفیروں
 الْكِرَامِ الْبَرَّةِ الطَّيِّبِينَ، وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، وَعَلَى مَلَائِكَةِ الْجِنَانِ، وَخَزَنَةِ
 پر رحمت فرما جو عزت دار نیک اور پاکیزہ ہیں اور اپنے فرشتوں پر رحمت فرما جو عزت دار کاتب ہیں اور جنت کے فرشتوں پر

النِّيرَانِ، وَمَلِكِ الْمَوْتِ وَالْأَعْوَانِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ أَيْنَا آدَمَ بَدِيعِ
 جَنَّمَ كَيْ تَهْبَانِ فَرَشْتَوْنَ بِرُحْمَتِهِ مَوْتِ أَوْرِ اس كَيْ مَدَّ كَارُونَ بِرُحْمَتِهِ فَرَمَا اے صَاحِبِ جَلَالَتِ وَعِزَّتِ اے مَعْبُودِ! هَمَارے بَآپِ
 فِطْرَتِكَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ بِسُجُودِ مَلَائِكَتِكَ، وَأَبْحَثَهُ جَنَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ أَمْنَا حَوَاءَ
 M پر رَحْمَتِ نَازِلِ فَرَمَا جَو تِيرِي مَخْلُوقِ مِيں نَقْشِ اَوَّلِ هِيں بِجَكُو تَوْنِي فَرَشْتَوْنَ سِي سَبْدِه كَرَا كَيْ عِزَّتِ دِي اَوْرِ اِيْنِي جَنَّتِ اِن كَيْلِي كَهُولِ دِي
 الْمَطْهَرَةِ مِنَ الرَّجْسِ، الْمَصْفَاةِ مِنَ الدَّنَسِ، الْمُفْضَلَةِ مِنَ الْإِنْسِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ مَحَالِّ الْقُدْسِ
 اے مَعْبُودِ! هَمَارِي مَآنِ حَوَا بِرُحْمَتِ فَرَمَا جَو لَآئِشِ سِي پَآكِ اَوْرِ هَرِ مِيْلِ كَچِيْلِ سِي صَافِ وَ پَآكِيْزِه هِيں وَه اِنْسَانُونَ مِيں سِي
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ هَابِيلَ وَشِيثَ وَادْرِيَسَ وَنُوحَ وَهُودَ وَصَالِحَ وَابْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ
 بَلَنْدَرِ اَوْرِ پَآكِيْزِي كَيْ مَحَلَاتِ مِيں 1 پَهْرَتِي هِيں اے مَعْبُودِ! هَابِيْلَ، شَيْثَ، اَدْرِيَسَ اَوْرِ نُوحَ، هُوْدَ، صَآلِحَ، اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ اَوْرِ اِسْحَاقَ،
 وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالْأَسْبَاطِ وَلُوطَ وَشُعَيْبَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَيُوشَعَ وَمِيشَا وَالْحَضِرَ
 يَعْقُوبَ اَوْرِ يُوْسُفَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ اِن كَيْ اَسْبَاطِ وَ اَوْلَادِ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ لُوطَ، شُعَيْبَ، اَيُّوبَ، مُوسَى وَ هَارُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ يُوْسُفَ، كَيْشَا وَ نَحْضَرَ
 وَذِي الْقُرْنَيْنِ وَيُونُسَ وَالْيَاسَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ وَطَالُوتَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَرِيَّا وَشُعَيْبَا
 اَوْرِ ذَوِ الْقُرْنَيْنِ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ اِن كَيْ اَسْبَاطِ وَ اَوْلَادِ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ لُوطَ، شُعَيْبَ، اَيُّوبَ، مُوسَى وَ هَارُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ يُوْسُفَ، كَيْشَا وَ نَحْضَرَ
 وَيَحْيَى وَتُورَخَ وَمَتَّى وَارْمِيَا وَحَيْقُوقَ وَدَانِيَالَ وَعُزَيْرَ وَعِيسَى وَشَمْعُونَ وَجَرَجِيَسَ وَالْحَوَارِيْنَ
 اَوْرِ ذَكَرِيَّا، شُعَيْبَا، مَتَّى، تُوْرَخَا، اِيْسَى، اِرْمِيَا اَوْرِ حَيْقُوقَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ دَانِيَا، عَزِيْرَ، عِيْسَى،
 وَالْأَتْبَاعِ وَخَالِدِ وَحَنْظَلَةَ وَلُقْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمِ مُحَمَّدًا وَآلَ
 شَمْعُوْنَا اَوْرِ جَرَجِيَسَ نِيْزِ اِن كَيْ حَوَارِيُونِ اَوْرِ پِيْرُو كَارُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ خَالِدِ، حَنْظَلَةَ اَوْرِ لُقْمَانَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اے مَعْبُودِ! مُحَمَّدٌ وَ
 مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ وَآلِ
 M مُحَمَّدٍ بِرُحْمَتِ فَرَمَا مُحَمَّدٌ وَ M مُحَمَّدٍ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ مُحَمَّدٌ وَ M مُحَمَّدٍ بِرُحْمَتِ فَرَمَا جِيْسَا كَيْ تُو
 اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ الْاَوْصِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَائِمَّةِ الْهُدَى.
 نِي اِبْرَاهِيْمَ اَوْلَا اِل اِبْرَاهِيْمَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ اِن كَيْ اَسْبَاطِ وَ اَوْلَادِ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ لُوطَ، شُعَيْبَ، اَيُّوبَ، مُوسَى وَ هَارُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ يُوْسُفَ، كَيْشَا وَ نَحْضَرَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ الْاَبْدَالِ وَالْاَوْتَادِ وَالسِّيَاحِ وَالْعَبَادِ وَالْمُخْلِصِيْنَ وَالزُّهَادِ وَالْاَهْلِ الْجَدِّ وَالْاَجْتِهَادِ
 اَوْرِ هِدَايَتِ الْاَلِيْمَةِ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اے مَعْبُودِ! رَحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ لُوطَ، شُعَيْبَ، اَيُّوبَ، مُوسَى وَ هَارُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ يُوْسُفَ، كَيْشَا وَ نَحْضَرَ
 وَاخْصُصْ مُحَمَّدًا وَاهْلَ بَيْتِهِ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَأَجْزَلِ كَرَامَاتِكَ، وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ مِنِّي
 وَ اَوْلُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ اِن كَيْ اَسْبَاطِ وَ اَوْلَادِ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ لُوطَ، شُعَيْبَ، اَيُّوبَ، مُوسَى وَ هَارُونَ بِرُحْمَتِ فَرَمَا اَوْرِ يُوْسُفَ، كَيْشَا وَ نَحْضَرَ

تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَزِدْهُ فَضْلًا وَشَرَفًا وَكَرَمًا حَتَّى تَبْلُغَهُ أَعْلَى دَرَجَاتِ أَهْلِ الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّينَ
 کو سلام اور ادا پہنچا اور انہیں فضل و شرف اور بزرگی میں بڑھا حتیٰ کہ تو ان کو انبیاء مرسلین میں سے اہل شرف ہستیوں اور
 وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَفْضَلِ الْمُقَرَّبِينَ، اَللّٰهُمَّ وَصَلْ عَلٰی مَنْ سَمَّيْتُ وَمَنْ لَمْ اُسْمِ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَ
 اپنے بزرگ تر مقربوں کے بلند درجات پر پہنچا دے اے معبود! ان پر رحمت فرما جن کے نام میں نے لیئے اور جن کے
 اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ، وَاَوْصِلْ صَلَوَاتِيْ اِلَيْهِمْ وَ اِلَى اَرْوَاحِهِمْ وَاجْعَلْهُمْ اِخْوَانِي
 نام میں نے نہیں لیئے جو تیرے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں اور فرمانبرداروں میں سے ہیں میری صلوات ان تک اور ان کی
 فِيكَ وَاعْوَانِيْ عَلٰی دُعَائِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلَيْكَ وَبِكَرَمِكَ اِلَى كَرَمِكَ وَ
 روجوں تک پہنچا دے اور اپنی درگاہ میں انہیں میرے بھائی اور دعا میں میرے مددگار بنا دے اے معبود میں تیرے حضور
 بِجُودِكَ اِلَى جُودِكَ وَبِرَحْمَتِكَ اِلَى رَحْمَتِكَ وَبِاهْلِ طَاعَتِكَ اِلَيْكَ وَاسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ
 تیری شفاعت لایا اور تیرے کرم تک، تیری عطا تک، تیری عطا کو اور تیری رحمت تک تیری رحمت کو اور تیرے فرمانبرداروں کو شفیق بنا رہا ہوں اور اے
 بِكُلِّ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ شَرِيْفَةٍ غَيْرِ مَرْدُوْدَةٍ وَبِمَا دَعَوْتُكَ بِهِ مِنْ دَعْوَةٍ مُجَابَةٍ
 پرودگار میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو ان میں سے کسی نے بہترین سوال کیا جسے رد نہیں کیا گیا اور جو دعا انہوں نے مانگی جسے قبول کیا گیا رد نہیں کیا گیا
 غَيْرِ مُخَيَّبَةٍ يَا اَللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا عَظِيْمُ يَا جَلِيْلُ يَا مُنِيْلُ يَا جَمِيْلُ يَا
 وہی دعا کرتا ہوں اے اللہ، اے رحمن، اے مہربان، اے بردبار، اے کرم کرنے والے، اے بڑائی والے، اے جلالت والے، اے بخشش والے، اے زیبا
 كَفِيْلُ يَا وَكِيْلُ يَا مُقِيْلُ يَا مُجِيْرُ يَا خَبِيْرُ يَا مُنِيْرُ يَا مُبِيْرُ يَا مَنِيْعُ يَا مُدِيْلُ يَا مُحِيْلُ يَا كَسِيْرُ يَا
 اے سرپرست، اے کارساز، اے معاف کرنے والے، اے پناہ دینے والے، اے خبردار، اے تابندہ، اے ناپود کرنے والے، اے محفوظ، اے پھیرنے والے، اے حرکت
 قَدِيْرُ يَا بَصِيْرُ يَا شَكُوْرُ يَا بَرُّ يَا طَهْرُ يَا طَاهِرُ يَا قَاهِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا سَاتِرُ يَا مُحِيْطُ يَا
 دینے والے، اے بزرگ، اے قدرت والے، اے پناہ دہندہ، اے قہر والے، اے پاک، اے پاکیزہ، اے غالب، اے عیاض، اے پنہاں، اے پردہ پوش، اے گھیرنے
 مُقْتَدِرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُتَجَبِّرُ يَا قَرِيْبُ يَا وَدُوْدُ يَا حَمِيْدُ يَا مَجِيْدُ يَا مُبْدِيْ يَا مُعِيْدُ
 والے، اے اقتدار والے، اے نگہبان، اے جوڑنے والے، اے نزدیک تر، اے دوستی والے، اے پسندیدہ، اے بزرگوار، اے اظہار کرنے والے، اے پلٹانے والے،
 يَا شَهِِيْدُ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمَلُ يَا مُنْعَمُ يَا مُفْضِلُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا هَادِيْ يَا مُرْسَلُ يَا مُرْسَدُ
 اے گواہ، اے احسان کرنے والے، اے نیک کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے عطا کرنے والے، اے پکڑنے والے، اے دینیوالے، اے ہدایت دینے والے، اے بھیجنے والے اے
 يَا مُسَدِّدُ يَا مُعْطِيْ يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ يَا بَاقِيْ يَا وَاقِيْ يَا خَلَّاقُ يَا وَهَّابُ يَا تَوَّابُ يَا فَتَّاحُ
 نیک بنانے والے، اے محکم کرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے روکنے والے، اے ہٹانے والے، اے بلند کرنے والے، اے بقا والے، اے گھمڈار، اے پیدا کرنے والے، اے بخشش

يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتاحُ يَا مَنْ بَدَدَهُ كُلُّ مِفْتَاحٍ يَا نَفَّاعُ يَا رَوْفُفُ يَا عَطُوفُ يَا كَافِي يَا شَافِي
 والے الے توبہ قبول کر نیوالے الے کھولنے والے، الے ہوا بھیجنے والے الے راحت دینے والے، الے وہ جس کے ہاتھ میں ہر کلید ہے الے نفع دینے والے، الے مہربان، الے
 يَا مُعَافِي يَا مُكَافِي يَا وَفِيُّ يَا مُهَيِّمُنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا أَحَدُ
 نرمی والے الے کفایت والے الے شفا والے الے عافیت والے الے کفایت کرنے والے الے وفا والے الے نگہبان الے زبردست الے غلبے والے الے بڑائی والے الے
 يَا صَمَدُ يَا نُورُ يَا مُدَبِّرُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا قُدُّوسُ يَا نَاصِرُ يَا مُؤْنِسُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا
 سلامتی والے الے امن دینے والے الے یکتا الے بے نیاز الے روشن الے کام پورا کرنے والے الے یگانہ الے تنہا الے پاکیزہ الے تر الے مددگار الے اُس والے الے اٹھانے
 عَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا بَادِي يَا مُتَعَالِي يَا مُصَوِّرُ يَا مُسَلِّمُ يَا مُتَحَبِّبُ يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ
 والے الے ورثہ دار الے دانائے حکم والے الے لایا غا ز کرنے والے الے ہر تری والے الے صورت گر الے سلامتی دینے والے الے دوستی کرنے والے الے قائم الے ہیشگی والے الے
 يَا جَوَادُ يَا بَارِيُّ يَا بَارُ يَا سَارُ يَا عَدْلُ يَا فَاصِلُ يَا دِيَانُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا سَمِيعُ يَا بَدِيعُ
 علم والے الے حکمت والے الے عطا والے الے پیدا کرنے والے الے نیکی والے الے خوشی دینے والے الے عدل والے الے فیصلہ کر نیوالے الے ہزاد نیوالے الے محبت کر نیوالے
 يَا خَفِيرُ يَا مُعِينُ يَا نَاشِرُ يَا غَافِرُ يَا قَدِيمُ يَا مُسَهِّلُ يَا مُيسِّرُ يَا مُمِيتُ يَا مُحْيِي يَا نَافِعُ
 الے احسان کرنے والے الے سننے والے الے نقش ساز الے پناہ دینے والے، الے مددگار الے دوبارہ زندہ کر نیوالے الے بخشنے والے الے سب سے پہلے الے اسان کر نیوالے الے ہموار
 يَا رَازِقُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُسَبِّبُ يَا مُغِيثُ يَا مُغْنِيُ يَا مُقْنِيُ يَا خَالِقُ يَا رَاصِدُ يَا وَاحِدُ يَا حَاضِرُ
 کر نیوالے الے مارنے والے الے زندہ کر نیوالے، الے نفع دینے والے الے رزق دینے والے الے اختیار والے الے سب پیدا کر نیوالے الے فریاد رس الے ثروت دینے والے الے
 يَا جَابِرُ يَا حَافِظُ يَا شَدِيدُ يَا غِيَاثُ يَا عَائِدُ يَا قَابِضُ يَا مَنْ عَلَا فَاسْتَعْلَى فَكَانَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى،
 نگہدار الے خلق کر نیوالے الے نگہبان الے یگانہ الے موجود الے جوڑنے والے الے حفاظت کرنے والے الے سخت گیر الے داورس الے لوانے والے الے گرفت والے الے وہ جو بلند ہو کر
 يَا مَنْ قَرَّبَ فَدَنَانًا، وَبَعَدَ فَنَائِي، وَعَلِمَ السِّرَّ وَأَخْفَى يَا مَنْ إِلَيْهِ التَّدْبِيرُ وَلَهُ الْمَقَادِيرُ، وَيَا مَنْ
 غائب ہوا تو بہت ہی اونچے مقام پر تھا، الے وہ جو قریب ہے تو پہلو میں ہے اور دور ہے تو پہنچ میں نہیں اور چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے، الے وہ جو صاحب تدبیر اور وہی انداز بیکرنے والا ہے،
 الْعَسِيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ، يَا مَنْ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ يَا مُرْسِلَ الرِّيَّاحِ، يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ،
 الے وہ جس کیلئے مشکل کام معمولی اولہ اسان ہے، الے وہ جو کچھ بھی چاہے اس پر قادر ہے الے ہواؤں کے چلانے والے، الے صبح کی روشنی پھیلانے والے،
 يَا بَاعِثَ الْأَرْوَاحِ يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّمَّاحِ، يَا رَادَّ مَا قَدَفَاتِ، يَا نَاشِرَ الْأَمْوَاتِ، يَا جَامِعَ الشَّنَاتِ،
 الے روحوں کو بھیجنے والے، الے عطا و سخاوت کے مالک، الے گمشدہ چیز کے پلانے والے، الے مردوں کے زندہ کرنے والے، الے بکھری چیزوں کے جمع کرنے والے،
 يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَيَا فَاعِلَ مَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا
 الے جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دینے والے، الے جو چاہے % چاہے کرنے والے اور الے جلالت

حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا حَيًّا حِينَ لَا حَيَّ، يَا حَيُّ يَا مُحْيِيَ الْمَوْتَى، يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ
و بزرگی والے، اے زندہ، اے نگہبان، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ ہو، اے وہ زندہ جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اے وہ زندہ کہ
وَالْأَرْضِ يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ
تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ۱۱۱ سنانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اے معبود اور میرے سردار محمد و ۱۱۱
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
محمد پر درود بھیج محمد و ۱۱۱ محمد پر رحمت فرما اور محمد و ۱۱۱ محمد پر برکت نازل کر %۱۰ تو نے ابراہیمؑ اور ۱۱۱ ابراہیمؑ پر درود بھیجا
حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَارْحَمْ ذُلِّي وَفَاقِي وَفَقِيرِي وَأَنْفِرَادِي وَوَحْدَتِي وَخُصُوعِي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَ
برکت نازل کی اور رحمت فرمائی بے شک تو تعریف والا شان والا ہے اور میری ذلت، فقر و فاقہ میری بے کسی، میری تنہائی پر رحم کر اور تیرے سامنے میں جو
اعْتِمَادِي عَلَيْكَ، وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِعِ الدَّلِيلِ الْخَائِعِ الْخَائِفِ الْمُسْتَفِيقِ
عاجزی کرتا ہوں اور رحم کر کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں اس شخص کی سی دعا جو عاجز، پست، بیچ،
الْبَائِسِ الْمَهِينِ الْحَقِيرِ الْجَائِعِ الْفَقِيرِ الْعَائِدِ الْمُسْتَجِيرِ الْمُقَرَّبِ بَدْنِهِ، الْمُسْتَغْفِرِ مِنْهُ، الْمُسْتَكِينِ
ڈرا ہوا، سہا ہوا، بے چارہ، کم ترین، ناچیز، بھوکا، محتاج، پناہ خواہ، طالب پناہ، اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا، گناہ کی معافی مانگنے والا اور اپنے رب کے حضور
لِرَبِّهِ، دُعَاءَ مَنْ أَسْلَمَتْهُ ثِقَتُهُ وَرَفَضَتْهُ أَحِبَّتُهُ، وَعَظَمَتْ فَجِيعَتُهُ، دُعَاءَ حَرِيقِ حَزِينٍ ضَعِيفٍ مَهِينٍ
بے بس ہے ایسے شخص کی سی دعا جسے اعتباریوں نے چھوڑ دیا دوستوں نے دور بٹھا دیا اور اس کی مصیبت بھاری ہے میں دعا کرتا ہوں %۱۰ کوئی دل
بَائِسٍ مُسْتَكِينٍ بِكَ مُسْتَجِيرٍ . اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِيكٌ وَأَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرِ
جلا، دکھی، کمزور، پست، بے چارہ، ذلیل اور تجھ سے طالب پناہ دعا کرتا ہے اے معبود! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو مالک ہے تو جو چاہے وہ
يَكُونُ وَأَنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ . وَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ،
ہو جاتا ہے اور تو جو چاہے اس پر قادر ہے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس محترم مہینے اور پاک گھر، کعبہ مقدس، شہر مکہ، رکن و مقام اور عظمت والے مشغروں
وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَالْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ، وَبِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
کی حرمت کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد ﷺ (ان پر اور ان کی ۱۱۱ پر سلام) کے واسطے سے سوالی ہوں اے وہ جس نے ۱۱۱ دم و شیشٹ کے بعد ایوبؑ
السَّلَامِ . يَا مَنْ وَهَبَ لِأَدَمَ شَيْئًا وَلَا إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ، وَيَا مَنْ رَدَّ يُوْسُفَ عَلَى
کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضرت کے بعد ایوبؑ کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضرت کے اے
يَعْقُوبَ، وَيَا مَنْ كَشَفَ بَعْدَ الْبَلَاءِ ضُرَّ أَيُّوبَ، يَا رَادَّ مُوسَى عَلَى أُمِّهِ، وَزَايَدَ الْخَضِرِ فِي
وہ جس نے یوسفؑ کو یعقوبؑ کی طرف لوٹایا اے وہ جس نے ۱۱۱ زامش کے بعد ایوبؑ کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضرت کے

عَلِمِهِ، وَيَا مَنْ وَهَبَ لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ وَلِزَكَرِيَّا يَحْيَى، وَ لِمَرْيَمَ عِيسَى، يَا حَافِظَ بِنْتِ شُعَيْبٍ، علم میں اضافہ کرنے والے اے وہ جس نے داؤدؑ کو سلیمانؑ، زکریاؑ کو یحییٰؑ اور مریمؑ کو عیسیٰؑ عطا کیئے اے دختر شعیبؑ کی حفاظت کرنے والے اے

وَيَا كَافِلَ وَلَدِ أُمِّ مُوسَى أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي

مادر موسیٰ کے فرزند کے محافظ میں سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ و آل محمدؐ پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ میرے گناہوں، وَتَجِيرَنِي مِنْ عَذَابِكَ، وَتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وَأَمَانَكَ وَإِحْسَانَكَ وَغُفْرَانَكَ وَ سارے گناہ بخش دے مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے اور میرے لئے اپنی رضا مندی، اپنی پناہ، اپنا احسان، اپنی بخشش

جِنَانِكَ. وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُفَكَّ عَنِّي كُلَّ حَلْقَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي، وَتَفْتَحَ لِي كُلَّ بَابٍ، اور اپنی بہشت واجب کر دے اور میں سوال کرتا ہوں کہ میرے اور مجھے ایذا دینے والے کے درمیان جتنی کڑیاں ہیں وہ کھول دے

وَتُلِينَنِي لِي كُلَّ صَعْبٍ، وَتُسَهِّلَ لِي كُلَّ عَسِيرٍ، وَتُخْرِسَ عَنِّي كُلَّ نَاطِقٍ بِشَرٍّ، وَتَكْفِفَ عَنِّي ہر دروازہ میرے لئے کھول دے ہر سختی کو نرمی میں بدل دے ہر مشکل کو آسان کر دے میرے خلاف ہر بدگوئی کرنے والے

كُلَّ بَاغٍ، وَتَكْثِبَ عَنِّي كُلَّ عَدُوٍّ لِي وَحَاسِدٍ، وَتَمْنَعَنَّ مِنِّي كُلَّ ظَالِمٍ، وَتَكْفِينِي كُلَّ عَائِقٍ کو گونگا کر دے ہر سرکش کو مجھ سے دور کر دے اور میرے ہر دشمن و حاسد کو ذلیل کر دے ہر ظالم کو

يَحْوُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَاجَتِي وَيُحَاوِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعَتِكَ وَيُثَبِّطَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ. مجھ سے روکے رکھ ہر اس مانع سے میری کفایت فرما جو میرے جو میری حاجت کے درمیان حائل ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے تیری

يَا مَنْ أَلْجَمَ الْجِنَّ الْمُتَمَرِّدِينَ، وَقَهَرَ عَتَاةَ الشَّيَاطِينِ وَأَذَلَّ رِقَابَ الْمُتَجَبَّرِينَ وَرَدَّ كَيْدَ فرمانبرداری سے باز رکھے اور تیری عبادت سے دور کرے اے وہ جس نے سرکش جنات کو لگام دی اور نافرمان شیطانوں کی سرکوبی کی اور ظالموں کی گردنیں

الْمُسْتَظْلِمِينَ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى مَا تَشَاءُ، وَتَسْهِّلِكَ لِمَا تَشَاءُ

q دیں اور کمزور لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے آزادی بخشی میں سوال کرتا ہوں بواسطہ اس کے کہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے اور جو چاہے،

كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ قِضَاءَ حَاجَتِي فِيَمَا تَشَاءُ .

% چاہے تیرے لئے آسان ہے کہ تو میری حاجت روائی، جس چیز میں چاہے قرار دے۔

اسکے ساتھ ہی زمین پر سجدہ کرے اور اپنے دونوں رخسار خاک پر رکھ کر یہ کہے:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، فَارْحَمْ ذُلِّي وَفَاقِي وَاجْتِهَادِي وَتَضَرُّعِي وَمَسْكَتِي

اے معبود! میں تجھی کو سجدہ کرتا ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں پس میری ذلت، اوج اور میری کوشش، میری زاری و بے چارگی اور اپنی بارگاہ میں

وَفَقْرِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ .

میری محتاجی پر رحم فرما اے پروردگار۔

اس دوران یہ کوشش کرے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اگرچہ وہ مکھی کے پر جتنے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ یہ قبولیت دعا کی نشانی ہے۔